



سٹی اس بہار میں رہائشیوں کو محفوظ رہنے کی یاددہانی کرواتا ہے

برامپٹن، آن (17 مارچ، 2021) – گرم موسم کی پیش گوئی کے ساتھ، سٹی آف برامپٹن اس بہار میں رہائشیوں کو محفوظ رہنے کی یاددہانی کرواتا ہے۔ بلتا موسم اپنے ساتھ کئی خطرات لاتا ہے جس کے بارے میں سب کو آگاہ ہونا چاہیے۔

ان سردیوں میں مختلف اقسام کے حالات، مثلاً برفانی طوفان کا ملبہ، برف اور انجماد کا جمع ہونا اور اب، بہار کی آنے والی بارشوں کی وجہ سے، سٹی کا ایمرجینسی مینجمنٹ آفس رہائشیوں کو آگاہ کرتا ہے کہ سیلاب کا خطرہ اوسط سے زیادہ ہے۔ ذیل میں سیلاب سے حفاظت کے کچھ مشورے ہیں، جنہیں ذہن میں رکھا جانا چاہیے:

- کسی بھی ایسی ہنگامی حالت، جن میں پولیس، فائر یا ایمبولنس کی ضرورت ہو، کے لیے فوراً 1-1-9 کو کال کریں۔
- بلدیاتی سڑکوں پر مقامی سیلاب، طوفانی پانی کی نالیوں کے بند ڈھکنوں یا تہ خانے میں سیلابی پانی کے گھسنے کی اطلاع دینے کے لیے 311 سے رابطہ کریں۔
- ندیوں اور نہروں میں پانی کی اونچی سطح کی اطلاع دینے کے لیے، [کریڈٹ ویلی کنزرویشن اتھارٹی](#) سے صبح 8:30 تا سہ پہر 4:30، پیر تا جمعہ رابطہ کریں اور ان سے فلڈ ڈیوٹی افسر کا مطالبہ کریں۔
- اپنے سامان کی حفاظت کریں۔ سیلاب آنے سے پہلے، یقینی بنائیں کہ آپ پانی کو نکاسی کا راستہ دیں۔ اگر محفوظ ہو، تو اپنی املاک سے پانی کو قریبی کیچ بیسن یا گلی میں نکلنے کا راستہ دیں، تا کہ پانی آزادی سے بہ سکے۔ اپنی جگہ سے فالتو برف ہٹا دیں۔ یقینی بنائیں کہ کیچ بیسنز اور ڈاؤن سپاؤٹس کھلے ہوں۔
- اگر سیلاب آ جاتا ہے، تو کبھی بھی اس وقت بجلی بند کرنے کی کوشش نہ کریں، جب آپ ایسا کرنے کے لیے لازماً پانی سے گزرنا پڑے۔ بجلی بند کروانے کے لیے الیکٹرا سے رابطہ کریں۔ کبھی بھی ایسے کمرے میں نہ جائیں جہاں پانی بجلی کی اوٹ لیتس، ایپلائنس یا تاروں سے لگ رہا ہوں۔
- سیلاب ختم ہونے کے بعد، طویل مدتی پھپھوندی اور پانی کے رساؤ سے بچنے کے لیے اپنے گھر/املاک کی اچھی طرح صفائی کو یقینی بنائیں۔
- سیلاب زدہ سڑکوں سے نہ چلیں یا گاڑی نہ چلائیں۔ پانی کا جمع ہونا گلیوں اور سائڈ واکس کی حفاظت کو متاثر کریں۔

رہائشیوں کو یاددہانی کرائی جاتی ہے کہ دریاؤں، ندیوں، تالابوں (بشمول سیلاب کے پانی سے بنے ہوئے تالاب)، پانی کے ذخیروں، گیلے علاقوں اور دلدلوں پر سکیٹ نہ کریں، کیونکہ مسلسل بدلتے درجہ حرارت کی وجہ سے برف اور انجماد کے پگھلنے اور نگرانی کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ غیر محفوظ ہے۔ سٹی آف برامپٹن نے مقامی دریاؤں اور نہروں پر علامات لگائی ہیں، جو رہائشیوں کی ان پر سکیٹنگ کرنے میں حوصلہ شکنی کریں گی۔ اسکیٹنگ کے لیے مختص اور وضع کردہ جگہوں کے علاوہ کسی جھیل یا پانی کے راستے پر اسکیٹنگ کرنا [سٹیز پارک لینڈز ہائے لاء](#) کے تحت قانون کی خلاف ورزی ہو گی۔ عدم تعمیل پر زیادہ سے زیادہ \$5000 کا جرمانہ کیا جائے گا۔

اس بہار میں محفوظ رہنے کے لیے مزید مشوروں اور سیلابی رابطوں اور وسائل کی فہرست کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔